



غزل: تیرے اترار سے پہلے تیرے انکار کے بعد

Posted On : Hina Shahid Official

Category: Poetry

Hina Shahid Official start a journey for all social media writers to publish their writes. Welcome to all Writers , test your writing abilities. They write romantic novels, forced marriage , hero police officer based urdu novels, very romantic urdu novels, full romantic urdu novels, urdu novels, best romantic urdu novels, full hot

romantic urdu novels, famous urdu novels, romantic urdu novels list,
.romantic urdu novels of all, best urdu romantic novels

غزل: تیرے اترار سے پہلے تیرے انکار کے بعد

.is available here to online reading

👍👍❤️👉 Give your feedback Plz

ان سب ویب بلاگ، یوٹیوب چینل، اور ایپ والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس غزل کو چوری کر کے پوسٹ کرنے سے باز رہیں ورنہ ادارہ حناء شاہد آفیشیل اور رائیٹرز ان کے خلاف ہر طرح کی قانونی کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے۔

Copyright Reserved By Hina Shahid Official

شاعری پڑھنے کے بعد ویب کو منٹ بوس میں اپنا تبصرہ پوسٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کہ یہ شاعری کیسی لگی اور حناء شاہد آفیشیل کی یہ کاوش کتنی پسند آئی ہے؟ شکر یہ۔ آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔

Note: All copyrights are reserved by Hina Shahid Official. So don't reupload my meterial on any other Platform. If Anyone will try to .use my content Then They will face a strike in that case

We are Constantly working hard on making the www.hinashahidofficial.com website Better & more entertaining for you. we need your constant support to get going. Please feel free

to comment box for any queries / Suggestions / problems or if you just want to say hi. we would love to hear from you. if you have enjoyed the Poetry Articles & Romantic Novel's please don't forget .to like , share & comment's

Disclaimer: This website does not promote or encourage any illegal activities . All the contents provided by this website ;

www.hinashahidofficial.com

.Is meant for educational perpose only

,justpoetry#

,justpoetry#

,UrduShairy#

,BestUrduPoetry#

,BestUrduPoetryCollection#

غزل: تیرے اترار سے پہلے تیرے انکار کے بعد

ہم نے پھولوں کو جو دیکھا لب و رخسار کے بعد

پھول دیکھے نہ گئے حسن رخ یار کے بعد

کام نظروں سے لیا بروئے خمدار کے بعد
تیر مجھے مارے اس شوخ نے تلوار کے بعد
جس پہ ہو جائیں فد اکوئی بھی ایسا نہ ملا
سیکڑوں دیکھے حسین آپ کے دیدار کے بعد
دل ربائی کی ادایوں نہ کسی نے پائی
میرے سرکار سے پہلے میرے سرکار کے بعد
زندگی موت سے کچھ کم نہ تھی اے حبان حیات
تیرے اترار سے پہلے تیرے انکار کے بعد
دل و حبان کر کے ان کو بنا یا اپنا
عشق کے کھیل میں جیت اپنی ہوئی ہار کے بعد
چپین پھر اور کہیں پانہ کے اے عدم
ہم زمانے میں پھرے کو چہ دلدار کے بعد

,After gazing at the lips of the narcissus

.The flowers lacked the beauty of the beloved's face

Having acquired elegance from glances, my eyebrows adorned with
,a curved arch

The sword struck me after encountering the charm of the
.mischievous one

,May none be sacrificed for one who can't be found

.After glimpsing hundreds of beauties, none like your sight

,The style of heart-stealing grace, no one possessed before

.Before my beloved, and after my beloved

,Life was nothing less than death, O life of my soul

.Before your acceptance, and after your denial

,Creating them as my own with heart and soul

.In the game of love, victory was mine after defeat

,No peace could be found elsewhere, O void

.After wandering in the world, in the lane of the beloved

Please note that poetry translation is subjective, and the essence of t

.he original text may vary in interpretation

  Thanks for Reading  